

حج کے لیے بچائے گئے پیسوں پر بھی زکوٰۃ ہوگی یا نہیں  
الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

الاستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ  
میں اس سال حج کرنے کی نیت کی ہے اور میں نے اپنا پاسپورٹ ٹریول ایجنٹ کو  
بھیج دیا ہے مگر کوئی پیپر ورک نہیں ہوا صرف ویزہ کی اپلیکیشن کے لیے  
پاسپورٹ دیا ہے۔ اب میں اپنی زکوٰۃ نکالنے لگا ہوں کیا میں حج کے اخراجات  
تقریباً 5200 پاؤنڈ منہا کر کے بقیہ پر زکوٰۃ دوں گا یا سارے مال پر زکوٰۃ دینا ہوگی  
اور اگر رقم ادا کر دی ہو تو کیا حکم ہے۔

سائل: عمر فرام انگلینڈ

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب بعون الملک الوهاب اللهم هداية الحق والصواب

اگر نصاب پر سال گزر چکا ہے تو آپ پر پورے مال کی زکوٰۃ دینا ضروری ہوگی  
حج کے اخراجات کو زکوٰۃ سے منہا نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ابھی تک آپ کا ٹریول  
ایجنٹ سے کوئی ایسا کنٹریکٹ نہیں ہوا جس میں آپ نے پورے پیکیج کی قیمت بطور  
اجرت ان کو ادا کر دی ہو۔ اور اگر آپ نے رقم پیشتر ادا کر بھی دی ہو پھر بھی وہ  
رقم اس کے پاس قرض اور آپ پر اس کی زکوٰۃ فرض ہوگی کہ جب تک آپ کا جانا  
ویزہ لگ کر یا کسی اور حتمی کنٹریکٹ کے ذریعے یقینی نہیں ہو جاتا تو آپ کی  
رقم ان کے پاس قرض کی حیثیت سے ہوگی اور جب آپ کا جانا کسی حتمی کنٹریکٹ  
کے ذریعے یقینی ہو جائے گا اس وقت وہ جمع کردہ رقم آپ کی ملکیت سے نکل کر  
پیکیج کی اجرت قرار پائے گی اور اس رقم پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔

جیسا کہ فتاویٰ اہلسنت کتاب الزکوٰۃ میں ہے: جب تک حتمی طور پر آپ کا  
نام منتخب نہیں ہو جاتا آپ کی جمع کردہ رقم حج منتظمین کے پاس قرض کے حکم  
میں ہے ایسی حالت میں اگر نصاب کا سال پورا ہو کر زکوٰۃ نکالنے کی تاریخ آجاتی  
ہے تو آپ کو اس جمع شدہ رقم کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔

(170 فتاویٰ اہلسنت کتاب الزکوٰۃ ص)

والله تعالى اعلم ورسوله اعلم صلى الله عليه وآله وسلم  
کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

## Will there be Zakāh on money put aside for Hajj or not?

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

### QUESTION:

What do the scholars of the Dīn and muftīs of the Sacred Law state regarding the following issue: I have made intention of Hajj for this year and have sent off my passport to the travel agent. But no paperwork has been done; I have only given my passport for the visa application. I am about to calculate my Zakāh, do I exclude the expenditures of Hajj, which are approximately £5200, and work out Zakāh on the remaining, or do I have to give Zakāh on the total amount of wealth. Also, if I have given the amount [for Hajj], so what is the ruling regarding this?

Questioner: Umar from UK

### ANSWER:

بسم الله الرحمن الرحيم  
الجواب يعون المَلِكِ الوهاب اللهم هداية الحق والصواب

If a whole year has passed upon one having ownership of the amount for the nisāb [i.e. threshold for Zakāh], then one will have to give Zakāh on the full amount; the expenditures for Hajj cannot be excluded. This is because, at this current moment in time, there has been no such contract with the travel agent in which one has had to pay the fee of the total amount for the Hajj package. Even in the case of having made payment beforehand, that amount will still be a debt with them and its Zakāh will be Fard upon you, because so long as you're going, having got the visa, or by means of a final categorical contract, is not definite, then your amount of money with them will remain regarded as a debt. However, when your going has been confirmed as definite by means of a final categorical contract, now the amount deposited will leave your ownership and be regarded as the fee for the Hajj package, and [thus] there will be no Zakāh on that amount.

Just as it is mentioned in Fatāwā Ahle Sunnat, in the chapter of Zakāh, that as long as one's name is not selected for definite, one's money which is with the Hajj organizers is in the ruling of a debt. In such case, if a year has passed upon one having possessed the amount for the nisāb and the date for taking out Zakāh has come, then one will have to pay the Zakāh for this deposited amount.

[Fatāwā Ahle Sunnat, pg 170]

والله تعالى اعلم ورسوله اعلم صلى الله عليه وآله وسلم  
كتبه ابو الحسن محمد قاسم ضياء قادري

**Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri**

Translated by Haider Ali